

پیارے مہمان،

اپنے آپ اور اپنے عزیز و اقربا کو محفوظ رکھنے کے لیے، اور COVID-19 کے پھیلاؤ کی روک تھام کے لیے، جہاں آپ حفاظت سے علیحدہ ہو سکتے ہیں، اس Take Care Hotel (ٹیک کنیر ہوٹل) میں Test & Trace Corps آپ کی پذیرائی کرتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ جب تک آپ یہاں ہیں، آپ آرام سے رہیں اور یہاں دستیاب کئی خدمات اور معاونت کا فائدہ اٹھائیں۔

مندرجہ ذیل خدمات **مفت** مہیا کی جاتیں ہیں:

- ہوٹل تک اور ہوٹل سے واپس ٹرانسپورٹ اور کوئی بھی ضروری طبی اپائنٹمنٹ
  - نجی کمرے اور باتھ روم
  - موقع پر COVID-19 کی ٹیسٹنگ
  - مفت وائی فائی اور کیبل ٹی وی
  - رابطے میں رہنے کے لیے لامحدود مفت مقامی کالیں
  - روزانہ ناشتہ، دوپہر کا کھانا اور عشاء
  - مترجم کی خدمات
  - نسخے پر تجویز شدہ دوائیوں کی سپردگی (ڈاک وغیرہ سے ملنے والی)
  - ماہر ڈاکٹر، نرسوں اور سماجی کارکنان کی موقع پر صحت کی دیکھ بھال کی معاونت
  - ذہنی صحت کے فراہم کنندگان تک رسائی کے لیے ٹیلی سائیکیاٹری
- آپ کی حفاظت کے لیے، آپ کے ہوٹل کے فلور میں ہم نے عملہ تعینات کیا ہے۔ جب تک آپ یہاں ہیں وہ آپ کی مدد کر سکتے ہیں اور آپ کی صحت کی نگرانی کر سکتے ہیں۔
- اگر آپ کو کھانے، پیسے کی امداد، رہائش یا رہائشی مکان/کمرے کو خالی کروانے کی کارروائی کو رکوانے یا قانونی خدمات کی جیسی دیگر ضروریات ہیں، تو ہماری ٹیم کے ارکان آپ کی مدد کر سکتے ہیں۔

Take Care Hotel میں قیام سے آپ کی دوسری سہولیات (سرکاری خدمات) کے حصول میں کوئی اثر نہیں پڑے گا، جس میں آپ کی دائمی رہائش ("گرین کارڈ") کے لیے درخواست کرنے کی اہلیت شامل ہے۔ مزید، COVID-19 کے حوالے سے فراہم کردہ طبی معالجہ یا COVID-19 کی روک تھام کے لیے صحت کی دیکھ بھال کی خدمات کو پبلک چارج کے قانون کے تحت تصور نہیں کیا جائے گا۔

ہم چاہتے ہیں کہ آپ اپنے قیام کے دوران آرام اور حفاظت سے رہیں۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہے یا کسی مسئلے کے بارے میں آپ رپورٹ کرنا چاہتے ہیں، مہربانی فرما کر اپنے فلور کے عملے سے بات کیجیے یا فرنٹ ڈیسک سے رابطہ کیجیے۔

آپ کے مخلص،

Test & Trace Corps